

# ترجمہ و تفسیر معانی كلمات القرآن الكريم

*Part : 52*

*A'raaf*

*100 words*

☆ عربی معنی السراج المنیر سے لیا گیا ہے، اردو محمد جونا گڑھی رحمہ اللہ کے ترجیح کو بنیاد (base) نما کر کیا گیا ہے اور انگلش صحیح انٹر نیشنل سے لیا گیا ہے۔

☆ The Arabic meanings and explanations have been taken from Assiraj Almuneer, the Urdu meanings have been taken from the translation of Muhammad Junagadi rahmatullaah alaih and the English meanings have been taken from Sahih International.

# شیخ ارشاد بسیر عمری مدنی

Shaikh Arshad Basheer Umari Madani

---

*Hafiz, Aalim, Faazil (Madina University, KSA), MBA.*

*Founder & Director of AskIslamPedia.com*

*Chairman: Ocean The ABM School, Hyd.*

 +91 92906 21633 (whatsapp only)

# سورة الأعراف

---

مکیہ / ترتیبها ۷ / آیا تھا 206

سورتوں کی کمی اور مدنی کی نشاندہی مصحف مدینہ کی بنیاد پر کی گئی ہے۔

يَنْظُرُونَ

يَنْتَظِرُونَ

They await

وہ لوگ انتظار کرتے ہیں  
Wo log intezar karte hain

**Quranic word**

**Arabic Meaning**

**English Meaning**

**Urdu Meaning**

# تَأْوِيلٌ

ما وعدوا به في القرآن من العقاب الذي  
يُؤول إليه أمرهم

Its result

اس کا نتیجہ  
Iska nateejah

**Quranic word**

**Arabic Meaning**

**English Meaning**

**Urdu Meaning**

وَضَلَّ

ذهب، وضع

And lost

اور گم ہو گیا  
Aur gum hogaya

**Quranic  
word**

**Arabic  
Meaning**

**English  
Meaning**

**Urdu  
Meaning**

اَسْتَوَى

عَلَ، وَارْتَفَعَ

Established Himself

وَهُوَ قَائِمٌ هُوَا  
Wo qaem huwa

**Quranic word**

**Arabic Meaning**

**English Meaning**

**Urdu Meaning**

يُغْشِي

يغطي، ويدخل

He covers

وہ چھپا دیتا ہے  
Wo chupaँdetा hai

**Quranic word**

**Arabic Meaning**

**English Meaning**

**Urdu Meaning**

حَثِيبًا

سریعا، دائما

Rapidly

جلدی سے  
Jaldi se

**Quranic word**

**Arabic Meaning**

**English Meaning**

**Urdu Meaning**

تَبَارَكَ

تعالیٰ، وتعاظم، وتنزہ

Blessed

برکت والا ہے  
Barkat waala hai

**Quranic word**

**Arabic Meaning**

**English Meaning**

**Urdu Meaning**

تَضْرِعًا

متذلّلين

In Humility

گڑ کڑا کے

Gidgidake

**Quranic  
word**

**Arabic  
Meaning**

**English  
Meaning**

**Urdu  
Meaning**

وَخُفْيَةً

سرًا

And privately

اور پوشیدہ حکلے حکلے

Aur posheedā chupke chupke

**Quranic word**

**Arabic Meaning**

**English Meaning**

**Urdu Meaning**

بُشْرًا

مبشرات بالغيث

As good tidings

وہ خوش کردیتی ہیں

Wo khush kardeti hain

**Quranic  
word**

**Arabic  
Meaning**

**English  
Meaning**

**Urdu  
Meaning**

أَقْلَتْ

حملت

They have carried

اٹھائیں  
Uthalein

**Quranic word**

**Arabic Meaning**

**English Meaning**

**Urdu Meaning**

ثَقَالٌ

مُحْمَلَةٌ بِالْمَاءِ

Heavy

بھاری  
Bhaari

**Quranic word**

**Arabic Meaning**

**English Meaning**

**Urdu Meaning**

لَبْدٌ مَّيْتٌ

لبلد مجدب

A dead land


خشک سرزمین کے لیے

**Quranic  
word**

**Arabic  
Meaning**

**English  
Meaning**

**Urdu  
Meaning**



نَصْرَفُ

نوع

We diversify

ہم طرح طرح سے بیان کرتے ہیں

Ham tarah tarah se bayaan karte hain

**Quranic  
word**

**Arabic  
Meaning**

**English  
Meaning**

**Urdu  
Meaning**

عَمِيْنَ

عَمِيَ الْقُلُوبُ عَنْ رُؤْيَاةِ الْحَقِّ

A blind people

اندھے  
Andhe

**Quranic word**

**Arabic Meaning**

**English Meaning**

**Urdu Meaning**

سَفَاهَةٌ

خفة عقل

Foolishness

کم عقلی  
Kam aqli

**Quranic word**

**Arabic Meaning**

**English Meaning**

**Urdu Meaning**

بَسْطَةٌ

قوة، وضخامة

Extensively

ڈیل ڈول  
Deel dol

**Quranic word**

**Arabic Meaning**

**English Meaning**

**Urdu Meaning**

اللَّهُ أَكْبَرُ

نَعَمْ اللَّهُ

The favors of Allah

اللَّهُ كَيْ نَعْمَلُونَ  
Allaah ki ne' mato

**Quranic  
word**

**Arabic  
Meaning**

**English  
Meaning**

**Urdu  
Meaning**

20

```

graph TD
    A((Quranic word)) --- B((Arabic Meaning))
    B --- C((English Meaning))
    C --- D((Urdu Meaning))
    
```

رَجْسٌ

عذاب

Defilement

عذاب  
'Azaab

820

Quranic word

Arabic Meaning

English Meaning

Urdu Meaning

وَقَطَعْنَا دَابِرَ

أهلكناهم جميعاً

And We cut off the roots

اور ہم نے جڑ کاٹ دی

Aur hamne jad kaat di

**Quranic  
word**

**Arabic  
Meaning**

**English  
Meaning**

**Urdu  
Meaning**

وَبَرَأْكُمْ

أَسْكِنْكُمْ وَمَكَنْ لَكُمْ

And settled you

تم کو (زمین پر) رہنے کا ٹھکانا  
Tum ko (zameen par) rahne ka thikaana

**Quranic word**

**Arabic Meaning**

**English Meaning**

**Urdu Meaning**

وَلَا تَعْثُوا

لَا تَسْعُوا

And do not commit abuse

اور تم فساد مت پھیلاو

Aur tum fasaad mat phailao

**Quranic word**

**Arabic Meaning**

**English Meaning**

**Urdu Meaning**

فَعَقِرُوا

فَقْتَلُوا

So they hamstrung

پس انہوں نے (اس او ننی کو) مار ڈالا

Pas unho ne (is oontni ko) maar daala

**Quranic word**

**Arabic Meaning**

**English Meaning**

**Urdu Meaning**

وَعَتُوا

استکروا

And were insolent

اور سرکشی کی  
Aur sarkashi ki

**Quranic word**

**Arabic Meaning**

**English Meaning**

**Urdu Meaning**

الرَّجْفَةُ

الزلزلة الشديدة

The earthquake

زَلْزَلٌ

Zalzalah

**Quranic  
word**

**Arabic  
Meaning**

**English  
Meaning**

**Urdu  
Meaning**

# جَاثِمِينَ

هالكين، لاصقين بالأرض على ركبهم،  
ووجوههم

Fallen prone

اوندھے اوندھے پڑے رہ گئے  
Aundhe aundhe pade rah gae

**Quranic word**

**Arabic Meaning**

**English Meaning**

**Urdu Meaning**

# الْغَابِرِينَ

الْهَالَكِينَ، الْبَاقِينَ فِي الْعَذَابِ

Who remained [with the evildoers]

ہلاک ہونے والے

Halaak hone waale

**Quranic word**

**Arabic Meaning**

**English Meaning**

**Urdu Meaning**

وَلَا تَبْخُسُوا

لا تقتصوا

Do not deprive

اور تم کم کر کے مت دو

Aur tum kam karke mat do

**Quranic word**

**Arabic Meaning**

**English Meaning**

**Urdu Meaning**

30

صِرَاطٌ

طريق

Path

رَاه

Raah

830

**Quranic  
word**

**Arabic  
Meaning**

**English  
Meaning**

**Urdu  
Meaning**

# تُوعِّدُونَ

تَوَعَّدُونَ النَّاسَ بِالْقَتْلِ

Threatening

تم دھمکیاں دیتے ہو

Tum dhämkiyaa dete ho

**Quranic word**

**Arabic Meaning**

**English Meaning**

**Urdu Meaning**

وَتَبْغُونَهَا عِوَجًا

**Quranic word**

**Arabic Meaning**

**English Meaning**

**Urdu Meaning**

تَرِيدُونَهَا مَعْوِجَةً، وَتَمْلِيُونَهَا اتِّباعًا لِأَهْوَائِكُمْ

And seeking to make it [seem] deviant

اور اس میں بھی کی تلاش میں لگے ہو

Aur isme kaji ki talaash me lage ho

# افتتح

احکم

Decide

تو فیصلہ کر دے  
Tu faisla karde

**Quranic word**

**Arabic Meaning**

**English Meaning**

**Urdu Meaning**

# الْفَاتِحَيْنَ

الحاكمين

Those who give decision

فیصلہ کرنے والے

Faisla karne waala hai

**Quranic  
word**

**Arabic  
Meaning**

**English  
Meaning**

**Urdu  
Meaning**

الرَّجْفَةُ

الزلزلة الشديدة

The earthquake

زنزلے  
Zalzale

**Quranic word**

**Arabic Meaning**

**English Meaning**

**Urdu Meaning**

# جَاثِمِينَ

هالكين، لا صقين بالأرض على ركبهم،  
ووجوههم

Fallen prone

اوندھے کے اوندھے پڑے رہ گئے  
Aundhe ke aundhe pade rah gae

**Quranic word**

**Arabic Meaning**

**English Meaning**

**Urdu Meaning**

لَمْ يَغْنُوا

لَمْ يَقِيمُوا فِي دِيَارِهِمْ

They had never resided

کبھی بسے ہی نہ تھے

Kabhi base hi na the

**Quranic  
word**

**Arabic  
Meaning**

**English  
Meaning**

**Urdu  
Meaning**

آسَى

أَحْزَنَ

I grieve

میں رنج و غم کھاتا ہوں

Mai ranj o gham khaata hu

**Quranic  
word**

**Arabic  
Meaning**

**English  
Meaning**

**Urdu  
Meaning**

بِالْبَأْسَاءِ

الفقر والبؤس

With poverty

سختی  
Sakhti

**Quranic word**

**Arabic Meaning**

**English Meaning**

**Urdu Meaning**

40

وَالضُّرُّاءِ

المرض والآلم

And hardship

تکلیف  
Takleef

**Quranic  
word**

**Arabic  
Meaning**

**English  
Meaning**

**Urdu  
Meaning**

840

بَضَّرَ عُونَ

يُسْكِنُونَ، وَيَتَذَلَّوْنَ

They might humble

وہ گڑ کرتا تیں ہیں  
Wo gidgidaati hain

**Quranic word**

**Arabic Meaning**

**English Meaning**

**Urdu Meaning**

السَّيِّئَةُ

الحالة السيئة؛ من المرض، والفقر

The bad

بدحالی  
Badhaali

**Quranic word**

**Arabic Meaning**

**English Meaning**

**Urdu Meaning**

# الْحَسَنَةَ

الحالة الحسنة؛ من العافية، والغنى

Good

خوش حالی  
Khush haali

**Quranic word**

**Arabic Meaning**

**English Meaning**

**Urdu Meaning**

عَفُوا

كثروا ونعوا عدداً وملا

They increased

وہ خوب ترقی یافتہ ہوئے

Wo khoob taraqqi yaafta huwe

**Quranic  
word**

**Arabic  
Meaning**

**English  
Meaning**

**Urdu  
Meaning**

45

بَغْتَةٌ

فجأةً

Suddenly

دُفْعَةً

Daf'atan

**Quranic  
word**

**Arabic  
Meaning**

**English  
Meaning**

**Urdu  
Meaning**

845

بَأْسُنَا

عذابنا

Our punishment

ہمارا عذاب  
Hamaara 'azaab

**Quranic word**

**Arabic Meaning**

**English Meaning**

**Urdu Meaning**

بَاتاً

لِيَلٍ

At night

شب کے وقت  
Shab ke waqt

**Quranic word**

**Arabic Meaning**

**English Meaning**

**Urdu Meaning**

أَوْلَمْ يَهْدِ

أَوْلَمْ يَتَبَيَّنَ

Has it not become clear

کیا یہ بات نہیں بتلائی  
Kya ye baat nahi batlai

**Quranic word**

**Arabic Meaning**

**English Meaning**

**Urdu Meaning**

پرثونَ

یسکنون

Who inherited

وہ لوگ وارث ہوں گے

Wo log waaris honge

**Quranic  
word**

**Arabic  
Meaning**

**English  
Meaning**

**Urdu  
Meaning**

وَنَطَّبْعُ

نَخْمٌ

We could afflict

ہم (ان کے دلوں پر) بندگا دیں گے  
Ham (inke dilo par) band laga denge

**Quranic word**

**Arabic Meaning**

**English Meaning**

**Urdu Meaning**

حَقِيقٌ

جَدِيرٌ

Proper

شایان شان

Shayaan e shaan

**Quranic  
word**

**Arabic  
Meaning**

**English  
Meaning**

**Urdu  
Meaning**

# شَعْبَانُ مُبِينٌ

حِيَةٌ عَظِيمَةٌ

A serpent, manifest

اژدھا  
Azdha

**Quranic word**

**Arabic Meaning**

**English Meaning**

**Urdu Meaning**

وَنَزَعَ بَدْهٌ

نزعها من جيده، أو جناحه

And he drew out his hand

اور اپنا ہاتھ باہر نکالا  
Aur apna haath baahar nikaala

**Quranic word**

**Arabic Meaning**

**English Meaning**

**Urdu Meaning**

أَرْجِهُ

آخره

Postpone

اے مہلت دیجئے  
Ise mohlat dijiye

**Quranic word**

**Arabic Meaning**

**English Meaning**

**Urdu Meaning**

وَاسْتَرْهَبُوهُمْ

خوفوهم، وأرهبواهم

And struck terror into them

اور انہوں نے ان پر ہیبت غالب کر دی

Aur inho ne unpar haibat ghaalib kardi

**Quranic word**

**Arabic Meaning**

**English Meaning**

**Urdu Meaning**

وَانْقَلِبُوا

انصرفوا

And they became

اور وہ واپس پلٹے

Aur wō waapas palte

**Quranic  
word**

**Arabic  
Meaning**

**English  
Meaning**

**Urdu  
Meaning**

صَاغِرِينَ

أَذْلَاءُ، مَقْهُورِينَ

Debased

خوب ذلیل ہو کر

Khoob zaleel hokar

**Quranic  
word**

**Arabic  
Meaning**

**English  
Meaning**

**Urdu  
Meaning**

مُنْقَلِبُونَ

رَاجِعُونَ

We will return

لوٹنے والے ہیں  
Lautne waale hain

**Quranic word**

**Arabic Meaning**

**English Meaning**

**Urdu Meaning**

أَفْرَغْ

أفض، وصب

Pour

فِيضاً فَرَمَ  
Faizaan farma

**Quranic  
word**

**Arabic  
Meaning**

**English  
Meaning**

**Urdu  
Meaning**

بِالْتَّنَبِيبِ

بالقطب، واجد

With years of famine

قطب سالی  
Qahet saali

**Quranic  
word**

**Arabic  
Meaning**

**English  
Meaning**

**Urdu  
Meaning**

الْحَسَنَةُ

الْخَصْبُ، وَالرِّزْقُ

Good

خوشحالی

Khush haali

**Quranic  
word**

**Arabic  
Meaning**

**English  
Meaning**

**Urdu  
Meaning**

62

سَبْئَةٌ

فحط، وجدب

A bad [condition]

بِدْهَالِي  
Badd haali

**Quranic word**

**Arabic Meaning**

**English Meaning**

**Urdu Meaning**

862

بَطَّيْرُوا

پتشاء موا

They saw an evil omen

وہ بد شگونی لیتے ہیں

Wo badshāgooni lete hain

**Quranic  
word**

**Arabic  
Meaning**

**English  
Meaning**

**Urdu  
Meaning**

طَابِرُهُمْ عِنْدَ اللَّهِ

ما أَصَابَهُمْ مِنَ الْقَحْطِ بِقَدْرِ اللَّهِ

Their fortune is with Allah

ان کی خوست اللہ تعالیٰ کے پاس ہے  
Inki nahusat Allaah ke paas hai

**Quranic word**

**Arabic Meaning**

**English Meaning**

**Urdu Meaning**

# الْطَّوفَانَ

السِّيلُ الْجَارِفُ الَّذِي أَغْرَقَ زَرْوَعَهُمْ

The flood

طوفان  
Tufaan

**Quranic word**

**Arabic Meaning**

**English Meaning**

**Urdu Meaning**

وَالْجَرَادَ

الذِي أَكَلَ زَرْعَهُمْ، وَأَشْيَاءَهُمْ

And locusts

اور طیار  
Aur tiddiyaa

**Quranic word**

**Arabic Meaning**

**English Meaning**

**Urdu Meaning**

# وَالْقُمَّلَ

الذِي يفسد الشمار، ويقضى على الحيوان  
والنبات

And lice

اور گھن کا کیرا

Aur ghan ka keeda

**Quranic word**

**Arabic Meaning**

**English Meaning**

**Urdu Meaning**

# وَالضَّفَادُعَ

الَّتِي مَلَأْتَ آنِيَتَهُمْ، وَمَضَاجِعَهُمْ

And frogs

اور مینڈک  
Aur mendak

**Quranic word**

**Arabic Meaning**

**English Meaning**

**Urdu Meaning**

وَالدَّمَ

الذِي اخْتَلَطَ بِعِيَاهُمْ

And blood

اور خون  
Aur khoon

**Quranic  
word**

**Arabic  
Meaning**

**English  
Meaning**

**Urdu  
Meaning**

70

# مُفْصَّلَاتٍ

مبینات

Distinct

کھل کھل

Khule khule

**Quranic  
word**

**Arabic  
Meaning**

**English  
Meaning**

**Urdu  
Meaning**

870

الرِّجْزُ

العذاب

The punishment

کوئی عذاب  
Koi azaab

**Quranic word**

**Arabic Meaning**

**English Meaning**

**Urdu Meaning**

عَهْدٌ

أُوحِيَ

He has promised

اس نے عہد کر رکھا ہے

Isne ahed kar rakha hai

**Quranic  
word**

**Arabic  
Meaning**

**English  
Meaning**

**Urdu  
Meaning**

پَنْكُثُونَ

يَنْقضُونَ عَهْدَهُمْ

They broke their word

وَهُنَّ عَاهِدٌ شُكْنِي كَرْنَ لَكْتَهُ هِيْ  
Wo ahed shikni karne lagte hain

**Quranic  
word**

**Arabic  
Meaning**

**English  
Meaning**

**Urdu  
Meaning**

البَحْرُ

البحر

The sea

دریا  
dārya

**Quranic  
word**

**Arabic  
Meaning**

**English  
Meaning**

**Urdu  
Meaning**

# مَشَارِقُ الْأَرْضِ وَمَغَارِبُهَا

**Quranic word**

**Arabic Meaning**

**English Meaning**

**Urdu Meaning**

بَلَادُ الشَّام

The eastern regions of the land  
and the western ones

زَمِينٌ كَيْمَانٌ  
Zameen ke purab pachim

يَعْرِشُونَ

يَرْفَعُونَ مِنَ الْبَنَاءِ

They have been building

وَهُوَ أَوْنَچِي أَوْنَچِي عَمَارَتَيْنِ بَنَوَاتِهِ تَخْ

Wo oonchi oonchi imaratein banwate the

**Quranic word**

**Arabic Meaning**

**English Meaning**

**Urdu Meaning**

وَجَاءُونَا

عَرْنَا

And We delivered

اور ہم نے (بنی اسرائیل کو دریا سے) پار اتار دیا  
Aur hamne(bani israel ko darya se) paar utaar diya

**Quranic word**

**Arabic Meaning**

**English Meaning**

**Urdu Meaning**

بَعْكُفونَ

يَقِيمُونَ عَابِدِينَ

The devoted

جو لوگ لگے بیٹھے ہیں

Jo log lage baithe hain

**Quranic  
word**

**Arabic  
Meaning**

**English  
Meaning**

**Urdu  
Meaning**

الْهَمَّا

صُنْمَا

A god

اِيْك مَبُود  
Ek ma'bood

**Quranic  
word**

**Arabic  
Meaning**

**English  
Meaning**

**Urdu  
Meaning**

80

مُتَبَّرٌ

**Quranic  
word**

**Arabic  
Meaning**

مهلك

Destroyed

**English  
Meaning**

**Urdu  
Meaning**

تباہ کیا جائے گا

Tabaah kiya jaega

880

بِسْوَمُونَكُمْ

يَذِيقُونَكُمْ، وَيَكْلُفُونَكُمْ

[Who were] afflicting you

جو تم کو تکلیفیں پہنچاتے تھے  
Jo tum ko taklifein pahunchate the

**Quranic word**

**Arabic Meaning**

**English Meaning**

**Urdu Meaning**

# لِمَيْقَاتِنَا

فِي الْوَقْتِ الَّذِي وَاعْدَنَا فِيهِ

At Our appointed time

ہمارے وقت پر آئے  
Hamare waqt par aae

**Quranic word**

**Arabic Meaning**

**English Meaning**

**Urdu Meaning**

83

صَعْقًا

مغشيا عليه

Fell unconscious

بے ہوش  
Behosh

**Quranic  
word**

**Arabic  
Meaning**

**English  
Meaning**

**Urdu  
Meaning**

883

الْأَلْوَاحُ

أَلْوَاحُ التُّورَاةِ

The tablets

چند تختیاں  
Chand takhiyaa

**Quranic word**

**Arabic Meaning**

**English Meaning**

**Urdu Meaning**

85

حَبَطْتُ

بَطَلَتْ

Have become worthless

وہ غارت ہو گئی

Wo ghaarat hogai

**Quranic  
word**

**Arabic  
Meaning**

**English  
Meaning**

**Urdu  
Meaning**

885

86

حُلْبَّةٌ

ذهب

Their ornaments

اپنے زیوروں  
Apne zewaro

**Quranic  
word**

**Arabic  
Meaning**

**English  
Meaning**

**Urdu  
Meaning**

886

خواز

صوت يسمع؛ كصوت البقر

A lowing sound

ایک آواز  
Ek aawaaz

**Quranic word**

**Arabic Meaning**

**English Meaning**

**Urdu Meaning**

سُقْطَةٌ فِي أَبْدِ يَهْمَّ

نَدَمُوا

Regret overcame them

اپنے ہاتھوں گر پڑے

Apne haatho gir pade

**Quranic  
word**

**Arabic  
Meaning**

**English  
Meaning**

**Urdu  
Meaning**

89

أَسْفًا

حزينا

Grieved

نَادِمٌ  
Naadim

**Quranic  
word**

**Arabic  
Meaning**

**English  
Meaning**

**Urdu  
Meaning**

889

90

ابن ام

یا ابن امی

O son of my mother

میرے ماں کے بیٹے  
Mere maa ke bete

890

**Quranic  
word**

**Arabic  
Meaning**

**English  
Meaning**

**Urdu  
Meaning**

فَلَا تُشْمِتْ بِي الْأَعْدَاءَ

لَا تُسْرِ الْأَعْدَاءَ بِمَا تَفْعَلُ بِي

So let not the enemies rejoice  
over me

تم مجاھ پر دشمنوں کو مت ہنساؤ

Tum mujh par dushmano ko mat hansao

**Quranic word**

**Arabic Meaning**

**English Meaning**

**Urdu Meaning**

سَكَنَ

سكن

It subsided

(موسىٰ علیہ السلام کا غصہ) فرو ہوا

(Moosa alaihissalaam ka ghussa) faro huwa

**Quranic word**

**Arabic Meaning**

**English Meaning**

**Urdu Meaning**

# لِمِيقَاتِنَا

لِلْوَقْتِ وَالْأَجْلِ الَّذِي وَاعْدَنَا فِيهِ

For Our appointment

ہمارے وقت معین

Hamare waqte mu'ayyan

**Quranic  
word**

**Arabic  
Meaning**

**English  
Meaning**

**Urdu  
Meaning**

94

الرَّجْفَةُ

الزلزلة الشديدة

The earthquake

زلزال  
Zalzala

**Quranic word**

**Arabic Meaning**

**English Meaning**

**Urdu Meaning**

هُدَّنَا

رَجَعْنَا تَائِبِينَ إِلَيْكُ

We have turned back

ہم تیری طرف رجوع کرتے ہیں  
Ham teri taraf rujoo karte hain

**Quranic word**

**Arabic Meaning**

**English Meaning**

**Urdu Meaning**

96

الْأَلَّامِيَّ

الذِي لَا يَقْرَأُ، وَلَا يَكْتُبُ

The unlettered

اُمی  
Ummi

896

**Quranic  
word**

**Arabic  
Meaning**

**English  
Meaning**

**Urdu  
Meaning**

97

إِصْرَهُمْ

ما كلفوه من الأعمال الشاقة

Their burden

ان کا بو جھ  
Inka bojh

**Quranic word**

**Arabic Meaning**

**English Meaning**

**Urdu Meaning**

897

وَعَزَّرُوهُ

وقروه، وعظموه

Honored him

اور لوگ ان کی حمایت کرتے ہیں

Aur log inki Himayat karte hain

**Quranic  
word**

**Arabic  
Meaning**

**English  
Meaning**

**Urdu  
Meaning**

وَقَطَعْنَاهُمْ

فرقناهم

And We divided them

اور ہم نے انہیں تقسیم کر دیا  
Aur hamne inhe taqseem kardiya

**Quranic word**

**Arabic Meaning**

**English Meaning**

**Urdu Meaning**

100

# أَسْبَاطًا

قبيلة بعد الأسباط، وهم أبناء يعقوب -  
عليه السلام - الاتنا عشر

**Quranic  
word**

**Arabic  
Meaning**

**English  
Meaning**

**Urdu  
Meaning**

Descendant tribes

خاندان

Khaandaan

900